

قرآن مجید

لفظی ترجمہ

يَعْتَذِرُونَ

پارہ 11

eParah

يَعْتَذِرُونَ	إِلَيْكُمْ	إِذَا	رَجَعْتُمْ	إِلَيْهِمْ	قُلْ	لَا تَعْتَذِرُوا
وہ عذر پیش کریں گے	طرف تمہارے	جب	لوٹو گے تم	طرف ان کے	کہہ دیجیے	نہ تم عذر پیش کرو
لَنْ نُؤْمِنَ	لَكُمْ	قَدْ	نَبَّأْنَا	اللَّهُ	مِنْ	أَخْبَارِكُمْ
ہرگز نہیں	ہم اعتبار کریں گے	تمہارا	تحقیق	بتادیں ہمیں	اللہ نے	بعض خبریں تمہاری
وَسَيَرَى	أَنْ	عَنْقَرِيْبٍ	دِكْهًا	وَأَنْ	عَنْقَرِيْبٍ	دِكْهًا
اور عنقریب دیکھے گا						
اللَّهُ	عَمَلَكُمْ	وَرَسُولُهُ	ثُمَّ	تُرَدُّونَ	إِلَى	عِلْمِ
اللہ	عمل تمہارا	اور اس کا رسول (بھی)	پھر	تم لوٹائے جاؤ گے	طرف جاننے والے	غیب
وَالشَّهَادَةِ	فِي	بَيْتِكُمْ	بِمَا	كُنْتُمْ	تَعْمَلُونَ	سَيَحْلِفُونَ
اور حاضر کے	پھر وہ بتائے گا تمہیں	وہ جو	تھے تم	تم عمل کرتے	عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے	
بِاللَّهِ	لَكُمْ	إِذَا	انْقَلَبْتُمْ	إِلَيْهِمْ	لِتُعْرَضُوا	عَنْهُمْ
اللہ کی	تمہارے لیے	جب	لوٹو گے تم	طرف ان کے	تا کہ تم اعراض کرو	ان سے
عَنْهُمْ	إِنَّهُمْ	رِجْسٌ	نَجِسٌ	وَمَا	وَاللَّهُ	أَعْلَمُ
ان سے	کیونکہ وہ	گندگی ہیں	اور ٹھکانہ ان کا	جنہم ہے	بدلہ ہے	اس کا جو
كَانُوا	يَكْسِبُونَ	يَحْلِفُونَ	لَكُمْ	لِتَرْضُوا	عَنْهُمْ	فَإِنْ
ہیں وہ	وہ کمائی کرتے	وہ قسمیں کھائیں گے	تمہارے لیے	تا کہ تم راضی ہو جاؤ	ان سے	پھر اگر
تَرْضُوا	عَنْهُمْ	فَإِنَّ	اللَّهُ	لَا	يَرْضَى	عَنِ
تم راضی ہو بھی جاؤ	ان سے	تو بے شک	اللہ	نہیں وہ راضی ہوتا	ان لوگوں سے	جو فاسق ہیں
الْأَعْرَابُ	أَشَدُّ	كُفْرًا	وَنِفَاقًا	وَأَجْدَرُ	أَلَّا	يَعْلَمُوا
دیہاتی / بدوی	زیادہ سخت ہیں	کفر	اور نفاق میں	اور زیادہ لائق ہیں	کہ نہ	وہ جانیں
مَا	أَنْزَلَ	اللَّهُ	عَلَى	رَسُولِهِ	وَاللَّهُ	عَلِيمٌ
اس کی جو	نازل کیا	اللہ نے	اپنے رسول پر	اور اللہ	خوب علم والا ہے	بہت حکمت والا ہے

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ	يَتَّخِذُ مَا	يُنْفِقُ مَغْرَمًا	وَيَتْرَبُّصُ
اور دیہاتیوں/بدویوں میں سے	کوئی ہے جو	بنالیتا ہے	اسے جو وہ خرچ کرتا ہے
بِكُمْ	الدَّوَائِرَ ط	عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ	السَّوْءِ ط وَاللَّهُ
تمہارے بارے میں	گردشوں کا	ان پر ہے	گدش گردش بری اور اللہ
عَلِيمٌ 98	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ	يُؤْمِنُ بِاللَّهِ	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
خوب جاننے والا ہے	اور دیہاتیوں/بدویوں میں سے	کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے	اللہ پر اور آخری دن پر
وَيَتَّخِذُ مَا	يُنْفِقُ قُرْبٍ	عِنْدَ اللَّهِ	وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ط
اور وہ بنالیتا ہے	اسے جو وہ خرچ کرتا ہے	قربتوں (کا ذریعہ)	اللہ کے نزدیک اور دعاؤں کا رسول کی
أَلَّا	إِنَّهَا قُرْبَةٌ	لَهُمْ ط	سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ
خبردار	بے شک وہ قربت (کا ذریعہ) ہے	ان کے لیے	عزیز دماغل کرے گا انہیں اللہ
إِنَّ اللَّهَ	غَفُورٌ	رَحِيمٌ 99	وَالسَّابِقُونَ
بے شک اللہ	بہت بخشنے والا ہے	بہت رحم کرنے والا ہے	اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ	وَالْأَنْصَارِ	وَالَّذِينَ	اتَّبَعُوهُمْ
مہاجرین میں سے	اور انصار میں سے	اور وہ جنہوں نے	پیروی کی ان کی ساتھ احسان کے
رَضِيَ	اللَّهُ عَنْهُمْ	وَرَضُوا عَنْهُ	وَاعَدَّ لَهُمْ
راضی ہو گیا اللہ	ان سے اور وہ راضی ہو گئے	اس سے اور اس نے تیار کر رکھا ہے	ان کے لیے بانغات کو
تَجْرِي	تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ	خَالِدِينَ	فِيهَا أَبَدًا ط
بہتی ہیں نیچے ان کے	نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں	اس میں ہمیشہ ہمیشہ	یہی ہے کامیابی
الْعَظِيمُ 100	وَمِمَّنْ	حَوْلَكُمْ	مِّنَ الْأَعْرَابِ
بہت بڑی اور ان میں سے جو	تمہارے آس پاس ہیں	دیہاتیوں/بدویوں میں سے	کچھ منافق ہیں

وَمِنْ أَهْلِ	الْمَدِينَةِ ١٠١	مَرَدُّوا	عَلَى النِّفَاقِ ١٠٢	لَا تَعْلَمُهُمْ ١٠٣	نَحْنُ
اور کچھ رہنے والوں میں سے	مدینہ کے	جواڑ گئے ہیں	منافقت پر	نہیں تم جانتے نہیں	ہم
تَعْلَمُهُمْ ١٠٤	سَعَدَابِهِمْ	مَرَّتَيْنِ	ثُمَّ	يُرَدُّونَ	إِلَى عَذَابِ
جانتے ہیں انہیں	عنقریب ہم عذاب دیں گے انہیں	دو بار	پھر	وہ لوٹائے جائیں گے	طرف عذاب
عَظِيمٍ ١٠٥	وَآخِرُونَ	اعْتَرَفُوا	بِذُنُوبِهِمْ	خَلَطُوا	عَمَلًا
بہت بڑے کے	اور کچھ دوسرے	جنہوں نے اعتراف کیا	اپنے گناہوں کا	انہوں نے ملا دیئے	کچھ عمل
صَالِحًا	وَآخِرٌ	سَيِّئًا ١٠٦	عَسَى	اللَّهُ	أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ١٠٧
نیک	اور دوسرے	برے	امید ہے	اللہ	کہ وہ مہربان ہو ان پر
اللَّهُ	غَفُورٌ	رَّحِيمٌ ١٠٨	خُذْ	مِنْ أَمْوَالِهِمْ	صَدَقَةً
اللہ	بہت بخشنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	لے لیجئے	ان کے مالوں میں سے	صدقہ
وَتُزَكِّيهِمْ	بِهَا	وَصَلِّ	عَلَيْهِمْ ١٠٩	إِنَّ	صَلَوَاتِكَ
اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا	ساتھ اس کے	اور دعائے رحمت کیجئے	ان کے حق میں	بے شک	دعا آپ کی
لَهُمْ ١١٠	وَاللَّهُ	سَبِّحُ	عَلَيْهِمْ ١١١	أَلَمْ	يَعْلَمُوا أَنَّ
ان کے لیے	اور اللہ	خوب سننے والا ہے	خوب جاننے والا ہے	کیا نہیں	وہ جانتے
هُوَ	يَقْبَلُ	التَّوْبَةَ	عَنْ عِبَادِهِ	وَيَأْخُذُ	الصَّدَقَاتِ
وہی	وہ قبول کرتا ہے	تو بہ کو	اپنے بندوں سے	اور وہ لے لیتا ہے	صدقات
اللَّهُ	هُوَ	التَّوَابُ	الرَّحِيمُ ١١٢	وَقُلْ	اعْمَلُوا
اللہ	وہی ہے	بہت توبہ قبول کرنے والا	نہایت رحم کرنے والا	اور کہہ دیجیئے	عمل کرو
اللَّهُ	عَمَلِكُمْ	وَرَسُولُهُ	وَالْمُؤْمِنُونَ ١١٣	وَسَتُرَدُّونَ	إِلَى عِلْمِ
اللہ	عمل تمہارا	اور رسول اس کا	اور اہل ایمان بھی	اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے	طرف جاننے والے

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَآخِرُونَ	غیب اور حاضر کے	پھر وہ بتائے گا تمہیں	وہ جو	تھے تم	تم عمل کرتے	اور کچھ دوسرے
مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ط	جو مؤخر رکھے گئے ہیں	عالم کے لیے	اللہ کے	خواہ	وہ عذاب دے انہیں	اور خواہ وہ مہربان ہو
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا	اور اللہ	خوب علم والا ہے	بہت حکمت والا ہے	اور وہ جنہوں نے	بنالی	ایک مسجد
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن	اور کفر کے لیے	اور جدائی ڈالنے کے لیے	درمیان ایمان والوں کے	اور گھات لگانے کے لیے	اس شخص کے لیے جس نے	
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ط وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا	جنگ کی	اللہ سے	اور اس کے رسول سے	اس سے پہلے	اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے	نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے
إِلَّا الْحُسْنَى ط وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ	مگر	بھلائی کا	اور اللہ	وہ گواہی دیتا ہے	بے شک وہ	البتہ جھوٹے ہیں نہ آپ کھڑے ہوں
فِيهِ أَبَدًا ط لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ	اس میں	کبھی بھی	البتہ مسجد	جس کی بنیاد رکھی گئی	تقویٰ پر	پہلے دن سے
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ط فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ أَنْ	زیادہ حق دار ہے	کہ	آپ کھڑے ہوں	اس میں	اس میں	کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ
يَتَطَهَّرُوا ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَنَنْتَ أَسَسَ بُيَانَهُ	وہ پاک صاف رہیں	اور اللہ	وہ پسند کرتا ہے	پاک صاف رہنے والوں کو	کیا بھلا جس نے	بنیاد رکھی اپنی عمارت کی
عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَسَسَ بُيَانَهُ	تقویٰ پر	اللہ کی طرف سے	اور رضامندی پر	بہتر ہے	یا	جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی

عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ط وَاللَّهُ	ایک کنارے پر کھائی کرنے والی کے تو وہ لے گری اسے آگ میں جہنم کی اور اللہ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 109 لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا	نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی وہ جو انہوں نے بنائی
رَيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ط وَاللَّهُ	شک کا سبب ان کے دلوں میں مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے اور اللہ
عَلِيمٌ ع حَكِيمٌ 110 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ	خوب جاننے والا ہے بہت حکمت والا ہے بے شک اللہ نے خرید لیں مومنوں سے جائیں ان کی
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اور مال ان کے بوجہ اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ	پھر وہ مارتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا تورات میں
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ	اور انجیل اور قرآن میں اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے
فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ	پس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر وہ جو سودا کیا تم نے ساتھ اس کے اور یہ وہی ہے
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 111 التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِحُونَ	کامیابی بہت بڑی جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے سیاحت کرنے والے
الرَّكِعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ	رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے حکم دینے والے نیکی کا اور روکنے والے

عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ	لِحُدُودِ اللَّهِ ط	وَبَشِّرِ	الْمُؤْمِنِينَ ⑪②
برائی سے	اور حفاظت کرنے والے ہیں	اللہ کی حدود کی	اور خوش خبری دے دیجیے
مؤمنوں کو			
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ	لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حِجَابٌ عَنِ اللَّهِ	لَمَّا كَانُوا هَٰؤُلَاءِ	وَمَا يَكُونُ لَهُمْ جِزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑪③
نہیں ہے (لائیق) نبی کے	اور ان کے	جو ایمان لائے	کہ وہ بخشش مانگیں
مشرکین کے لیے			
وَلَوْ كَانُوا أَهْلِ الْإِيمَانِ لَمَنَعَهُمْ رَبُّهُمْ وَآلِهِمْ	لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ	وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ	شَيْءٌ حَتَّىٰ تَقُولُوا لِلَّهِ حَسْبُ الْوَالِدِ ⑪④
اور اگرچہ ہوں وہ	قرابت والے	بعد اس کے	جو واضح ہو گیا
ان کے لیے	کہ بے شک وہ		
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ⑪③	وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ	لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ	وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
ساتھی ہیں	جنہم کے	اور نہ	تھا
استغفار کرنا	ابراہیم کا	اپنے باپ کے لیے	
إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ	وَعَدَاهَا	إِيَّاهُ ج	فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
مگر	ایک وعدے کی وجہ سے	اس نے وعدہ کیا اس کا	اس سے
پھر جب	ظاہر ہو گیا	اس کے لیے	کہ بے شک وہ
عَدُوٌّ	لِللَّهِ	تَبَرَّأَ مِنْهُ ط	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
دشمن ہے	اللہ کا	وہ بے زار ہو گیا	اس سے
بے شک	ابراہیم	البتہ بہت آہ و زاری کرنے والا	
حَلِيمٌ ⑪④	وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ	لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ	وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
بہت بردبار تھا	اور نہیں	ہے	اللہ
کہ وہ بھٹکا دے	کسی قوم کو	بعد اس کے	جب
هَدَاهُمْ	حَتَّىٰ	يَبَيَّنَ لَهُمْ	مَا يَتَّقُونَ ط
اس نے ہدایت دی انہیں	یہاں تک کہ	وہ واضح کر دے	ان کے لیے
وہ جس سے	وہ بچیں	بے شک	اللہ
بِجَلِّ شَيْءٍ	عَلَيْهِمْ ⑪⑤	إِنَّ اللَّهَ	لَهُ
ہر	چیز کا	خوب علم رکھنے والا ہے	بے شک
اللہ	اللہ	اسی کے لیے ہے	بادشاہت
آسمانوں			
وَالْأَرْضِ ط	يُحْيِي وَيُمِيتُ ط	وَمَا لَكُمْ	مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور زمین کی	وہ زندہ کرتا ہے	اور وہ موت دیتا ہے	اور نہیں
تمہارے لیے	سوائے	اللہ کے	کوئی دوست

وَلَا نَصِيرٌ ﴿١١٦﴾	لَقَدْ تَابَ	اللَّهُ	عَلَى النَّبِيِّ	وَالْمُهَاجِرِينَ
اور نہ	کوئی مددگار	البتہ تحقیق	مہربان ہوا	اللہ
اور نبی پر	توبہ	کی	تنگی	بعد اس کے
جو قریب تھا کہ	اور انصار پر	جنہوں نے	پیروی کی اس کی	گھڑی میں
یَزِيغُ قُلُوبَ	فَرِيقٍ	مِنْهُمْ	ثُمَّ تَابَ	عَلَيْهِمْ ٥ إِنَّهُ
بے شک وہ	دل	ایک گروہ کے	ان میں سے	پھر
وہ مہربان ہوا	ان پر	ان پر	بے شک وہ	
بِهِمْ رَعُوفٌ	رَحِيمٌ ٥ ﴿١١٧﴾	وَعَلَى الثَّانِيَةِ	الَّذِينَ خَلَفُوا ٥	
ان پر	بہت شفقت کرنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	اور ان تینوں پر (بھی)	جو
چھوڑ دیئے گئے				
حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَّتْ	عَلَيْهِمُ	الْأَرْضُ	بِأَرْضٍ	رَحِبَتْ وَضَاقَتْ
یہاں تک کہ	جب	تنگ ہو گئی	ان پر	زمین
باوجود اس کے	کہ وہ کشادہ تھی	اور تنگ ہو گئے		
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ	وَوَظَنُوا	أَنْ لَا مَلْجَأَ	مِنَ اللَّهِ	إِلَّا إِلَيْهِ ٥
ان پر	نفس ان کے	اور انہوں نے یقین کر لیا	کہ	نہیں کوئی جائے پناہ
اللہ سے	مگر	طرف اسی کے		
ثُمَّ تَابَ	عَلَيْهِمْ	لِيَتُوبُوا ٥	إِنَّ اللَّهَ	هُوَ
پھر	وہ مہربان ہوا	ان پر	تاکہ وہ توبہ کریں	بے شک
اللہ	وہی ہے	بہت توبہ قبول کرنے والا		
الرَّحِيمُ ٥ ﴿١١٨﴾	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	آمَنُوا اتَّقُوا	اللَّهَ	وَكُونُوا
نہایت رحم کرنے والا	اے لوگو جو	ایمان لائے ہو	ڈرو	اللہ سے
اور ہو جاؤ	ساتھ			
الصُّدُقِينَ ﴿١١٩﴾	مَا كَانَ	لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ	وَمَنْ	حَوْلَهُمْ
سچے لوگوں کے	نہ	تھا	مدینہ والوں کے (لائق)	اور ان کے جو
ان کے آس پاس تھے				
مِّنَ الْأَعْرَابِ	أَنْ يَتَخَلَّفُوا	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ	وَلَا	يَرْغَبُوا
دیہاتیوں/بدویوں میں سے	کہ	وہ پیچھے رہ جائیں	اللہ کے رسول سے	اور نہ
کہ وہ رغبت رکھیں				

بِأَنْفُسِهِمْ	عَنْ نَفْسِهِ ^ط	ذَلِكَ	بِأَنَّهُمْ	لَا يُصِيبُهُمْ	ظَبًا	وَلَا
اپنی جانوں کی	آپ کی جان سے (زیادہ)	یہ	بوجہ اس کے کہ وہ	نہیں پہنچتی انہیں	کوئی پیاس	اور نہ
نَصَبٌ	وَلَا	مَخْصَةٌ	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	وَلَا	يَطُونَ	مَوْطَأًا
کوئی تھکاوٹ	اور نہ	کوئی بھوک	اللہ کے راستے میں	اور نہیں	وہ روندتے	کسی جگہ کو
يَغِيظُ	الْكَفَّارَ	وَلَا	يَنَالُونَ	مِنْ عَدُوِّ	نِيْلًا	إِلَّا كُتِبَ
جو غصہ دلائے	کفار کو	اور نہیں	وہ حاصل کرتے	دشمن پر	کوئی کامیابی	مگر لکھا جاتا ہے
لَهُمْ	بِهِ	عَمَلٌ	صَالِحٌ ^ط	إِنَّ	اللَّهَ	لَا يُضِيعُ
ان کے لیے	ساتھ اس کے	عمل	نیک	بے شک	اللہ	نہیں وہ ضائع کرتا
الْحُسَيْنِينَ ^ل	وَلَا	يُنْفِقُونَ	نَفَقَةً	صَغِيرَةً	وَلَا	كَبِيرَةً
نیکو کاروں کا	اور نہیں	وہ خرچ کرتے	کوئی خرچ کرنا	چھوٹا	اور نہ	بڑا
يَقْطَعُونَ	وَادِيًا	إِلَّا	كُتِبَ	لَهُمْ	لِيَجْزِيَهُمُ	اللَّهُ
وہ طے کرتے	کوئی وادی	مگر	لکھا جاتا ہے (اجر)	ان کے لیے	تا کہ بدلہ دے انہیں	اللہ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^{ل21}	وَمَا	كَانَ	الْمُؤْمِنُونَ	لِيَنْفِرُوا	كَافَّةً ^ط	
اس کا جو	تھے وہ	وہ عمل کرتے	اور نہیں	ہے	مومنوں کے (لائق)	کہ وہ نکل پڑیں
فَكَوَلَا	نَفَرَ	مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ	مِنْهُمْ	طَائِفَةٌ	لِيَتَفَقَّهُوا	
پھر کیوں نہ	نکلے	ہر گروہ سے	ان میں سے	ایک جماعت	تا کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں	
فِي الدِّينِ	وَلِيُنذِرُوا	قَوْمَهُمْ	إِذَا	رَجَعُوا	إِلَيْهِمْ	لَعَلَّهُمْ
دین میں	اور تا کہ وہ ڈرائیں	اپنی قوم کو	جب	وہ لوٹیں	طرف ان کے	تا کہ وہ
يَحْذَرُونَ ^ع	يَأْيُهَا الَّذِينَ	أَمَنُوا	قَاتِلُوا	الَّذِينَ	يَلُونَكُمْ	
وہ ڈریں	اے لوگو جو	ایمان لائے ہو	جنگ کرو	ان سے جو	تمہارے آس پاس ہیں	

مَنْ الْكُفَّارِ	وَلِيَجِدُوا	فِيكُمْ	غِلْظَةً	وَأَعْلَمُوا	أَنَّ	اللَّهُ
کفار میں سے	اور چاہیے کہ وہ پائیں	تم میں	سخنی	اور جان لو	بے شک	اللہ
مَعَ	الْمُتَّقِينَ (123)	وَإِذَا مَا	أُنزِلَتْ	سُورَةٌ	فِيهِمْ	مَنْ يَقُولُ
ساتھ ہے	متقی لوگوں کے	اور جب بھی	نازل کی جاتی ہے	کوئی سورت	تو ان میں سے کوئی ہے	جو کہتا ہے
أَيْكُمْ	زَادَتْهُ	هَذِهِ	إِيْمَانًا	فَأَمَّا	الَّذِينَ	آمَنُوا
کون ہے تم میں	زیادہ کیا اس کو	اس (سورت) نے	ایمان میں	تو رہے	وہ جو	ایمان لائے
فَزَادَتْهُمْ	إِيْمَانًا	وَهُمْ	يَسْتَبْشِرُونَ (124)	وَأَمَّا	الَّذِينَ	
تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں	ایمان میں	اور وہ	وہ خوش ہوتے ہیں	اور رہے	وہ لوگ	
فِي قُلُوبِهِمْ	مَرَضٌ	فَزَادَتْهُمْ	رِجْسًا	إِلَى رِجْسِهِمْ	وَمَا تَوَّأ	
دلوں میں جن کے	مرض ہے	تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں	نجاست میں	طرف ان کی نجاست کے	اور وہ مر گئے	
وَهُمْ	كٰفِرُونَ (125)	أَوْلَا	يَرَوْنَ	أَنَّهُمْ	يُفْتَنُونَ	فِي كُلِّ عَامٍ
اس حال میں کہ وہ	کافر تھے	کیا بھلا نہیں	وہ دیکھتے	کہ بے شک وہ	آزمائے جاتے ہیں	ہر سال میں
مَرَّةً	أَوْ	مَرَّتَيْنِ	ثُمَّ	لَا يَتُوبُونَ	وَلَا	هُمْ يَذْكُرُونَ (126)
ایک بار	یا	دو بار	پھر	نہیں وہ توبہ کرتے	اور نہ	وہ نصیحت پکڑتے ہیں
وَإِذَا مَا	أُنزِلَتْ	سُورَةٌ	نَظَرَ	بَعْضُهُمْ	إِلَى بَعْضٍ	هَلْ
اور جب بھی	نازل کی جاتی ہے	کوئی سورت	دیکھتا ہے	بعض ان کا	طرف بعض کے	کیا
يُرَاكُمْ	مِنْ أَحَدٍ	ثُمَّ	انصَرَفُوا	صَرَفَ	اللَّهُ	قُلُوبَهُمْ
دیکھ رہے تھیں	کوئی ایک	پھر	وہ پھر جاتے ہیں	پھیر دیا	اللہ نے	ان کے دلوں کو
بِأَنَّهُمْ	قَوْمٌ	لَّا يَفْقَهُونَ (127)	لَقَدْ	جَاءَكُمْ	رَسُولٌ	مِنْ أَنْفُسِكُمْ
بوجہ اس کے کہ وہ	ایسے لوگ ہیں	نہیں وہ سمجھتے	البتہ تحقیق	آ گیا تمہارے پاس	ایک رسول	تمہارے نفسوں میں سے

عَزِيزٌ	عَلَيْهِ	مَا عِنْتُمْ	حَرِيصٌ	عَلَيْكُمْ	بِالْمُؤْمِنِينَ
گراں ہے	اس پر	کہ مشقت میں پڑو تم	حریص ہے	تم پر (بھلائی کا)	مومنوں پر

رَعُوفٌ	رَحِيمٌ ⑫	فَإِنْ	تَوَلَّوْا	فَقُلْ	حَسْبِيَ	اللَّهُ ⑬	لَا
بہت شفقت کرنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	پھر اگر	وہ منہ موڑیں	تو کہہ دیجیے	کافی ہے مجھے	اللہ	نہیں

إِلَهَ	إِلَّا هُوَ ⑭	عَلَيْهِ	تَوَكَّلْتُ	وَهُوَ	رَبُّ	الْعَرْشِ	الْعَظِيمِ ⑮
کوئی الہ (برحق)	مگر وہی	اسی پر	بھروسہ کیا میں نے	اور وہ	رب ہے	عرش	عظیم کا

آيَاتُهَا: 109	سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ 51	رُكُوعَاتُهَا: 11
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		

الرَّ	تِلْكَ	آيَاتُ	الْكِتَابِ	الْحَكِيمِ ①	أَكَانَ	لِلنَّاسِ
الر	یہ	آیات ہیں	کتاب	حکمت والی کی	کیا ہے	لوگوں کے لیے

عَجَبًا	أَنْ	أَوْحَيْنَا	إِلَى رَجُلٍ	مِنْهُمْ	أَنْ	أَنْذِرِ	النَّاسَ
عجیبات	کہ	وحی کی ہم نے	طرف ایک شخص کے	ان میں سے	کہ	ڈرائیے	لوگوں کو

وَبَشِّرِ	الَّذِينَ	آمَنُوا	أَنَّ	لَهُمْ	قَدَمَ	صِدْقٍ	عِنْدَ
اور خوش خبری دے دیجیے	انہیں جو	ایمان لائے	کہ بے شک	ان کے لیے	مرتبہ ہے	سچا	پاس

رَبِّهِمْ ②	قَالَ	الْكَافِرُونَ	إِنَّ	هَذَا	لَسِحْرٌ	مُبِينٌ ③	إِنَّ
ان کے رب کے	کہا	کافروں نے	بے شک	یہ	البتہ جادوگر ہے	کھلم کھلا	بے شک

رَبِّكُمْ	اللَّهُ	الَّذِي	خَلَقَ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	فِي سِتَّةِ	أَيَّامٍ
رب تمہارا	اللہ ہے	جس نے	پیدا کیا	آسمانوں	اور زمین کو	چھ دنوں میں	

ثُمَّ	اسْتَوَى	عَلَى الْعَرْشِ	يُدَبِّرُ	الْأَمْرَ ④	مَا	مِنْ شَفِيعٍ	إِلَّا
پھر	وہ بلند ہوا	عرش پر	وہ تدبیر کرتا ہے	تمام معاملات کی	نہیں	کوئی سفارشی	مگر

مِنْ بَعْدِ	إِذْنِهِ ط	ذِكْرُ	اللَّهُ	رَبُّكُمْ	فَاعْبُدُوهُ ط	أَفَلَا
بعد	اس کے اذن کے	یہی ہے	اللہ	رب تمہارا	پس عبادت کرو اس کی	کیا جھلا نہیں
تَذَكَّرُونَ ③	إِلَيْهِ	مَرْجِعُكُمْ	جَمِيعًا ط	وَعَدَا	اللَّهُ	حَقًّا ط إِنَّهُ
تم نصیحت پکڑتے	طرف اسی کے	لوٹنا ہے تمہارا	سب کے سب کا	وعدہ ہے	اللہ کا	سچا بے شک وہ
يَبْدُوا	الْخَلْقَ	ثُمَّ	يَعِيدُهُ	لِيَجْزِيَ	الَّذِينَ	آمَنُوا وَعَمِلُوا
وہ ابتدا کرتا ہے	پیدائش کی	پھر	وہ دوبارہ لوٹائے گا اسے	تاکہ وہ بدل دے	انہیں جو	ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے
الصَّلٰحٰتِ	بِالْقِسْطِ ط	وَالَّذِينَ	كَفَرُوا	لَهُمْ	شَرَابٌ	مِّنْ حَمِيمٍ
نیک	ساتھ انصاف کے	اور وہ جنہوں نے	کفر کیا	ان کے لیے	پینا ہے	سخت گرم پانی کا
وَعَذَابٌ	أَلِيمٌ ط	بِمَا	كَانُوا	يَكْفُرُونَ ④	هُوَ	الَّذِي جَعَلَ
اور عذاب ہے	دردناک	بوجہ اس کے جو	تھے وہ	وہ کفر کرتے	وہی ہے	جس نے بنایا
الشَّمْسِ	ضِيَاءً	وَالْقَمَرَ	نُورًا	وَقَدَارَةَ	مَنَازِلَ	لِتَعْلَمُوا
سورج کو	روشن	اور چاند کو	منور	اور اس نے مقرر کیں اس کی	منزلیں	تاکہ تم جان لو
عَدَدَ	السِّنِينَ	وَالْحِسَابِ ط	مَا	خَلَقَ	اللَّهُ	ذٰلِكَ إِلَّا
گنتی	سالوں کی	اور حساب	نہیں	پیدا کیا	اللہ نے	یہ (سب) مگر
بِالْحَقِّ ج	يُفَصِّلُ	الْآيَاتِ	لِقَوْمٍ	يَعْلَمُونَ ⑤	إِنَّ	فِي اخْتِلَافِ
ساتھ حق کے	وہ کھول کر بیان کرتا ہے	آیات کو	ان لوگوں کے لیے	جو علم رکھتے ہیں	بے شک	اختلاف میں
الَّيْلِ	وَالنَّهَارِ	وَمَا	خَلَقَ	اللَّهُ	فِي السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ لَا
رات	اور دن کے	اور جو	پیدا کیا	اللہ نے	آسمانوں میں	اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں
لِقَوْمٍ	يَتَّقُونَ ⑥	إِنَّ	الَّذِينَ	لَا	يَرْجُونَ	لِقَاءَنَا
ان لوگوں کے لیے	جو ڈرتے ہیں	بے شک	وہ لوگ جو	نہیں وہ امید رکھتے	ہماری ملاقات کی	

وَرَضُوا	بِالْحَيَاةِ	الدُّنْيَا	وَاطْمَأَنُّوا	بِهَا	وَالَّذِينَ هُمْ
اور وہ راضی ہو گئے	زندگی پر	دنیا کی	اور وہ مطمئن ہو گئے	اس پر	اور وہ جو
عَنْ آيَاتِنَا	غَفُلُونَ ⑦	أُولَئِكَ	مَا أَوْهَمُ	النَّارُ	بِهَا
ہماری آیات سے	غافل ہیں	یہی لوگ ہیں	ٹھکانا ان کا	آگ ہے	بوجہ اس کے جو
يَكْسِبُونَ ⑧	إِنَّ الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	يَهْدِيهِمْ
وہ کمائی کرتے	بے شک	وہ لوگ جو	ایمان لائے	اور انہوں نے عمل کیے	نیک
رَبَّهُمْ	بِأَيَّانِهِمْ ⑨	تَجْرِي	مِنْ تَحْتِهِمْ	الْأَنْهَارُ	فِي جَنَّاتٍ
رب ان کا	بوجہ ان کے ایمان کے	بہتی ہیں	ان کے نیچے سے	نہریں	باغات میں
النَّعِيمِ ⑩	دَعْوُهُمْ	فِيهَا	سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ	وَتَحِيَّتُهُمْ	فِيهَا
نعمتوں والے	ان کی دعا (ہوگی)	اس میں	پاک ہے تو	اے اللہ	اور دعا ان کی
سَلَامٌ ⑪	وَآخِرُ	دَعْوُهُمْ	أَنْ	الْحَمْدُ	لِلَّهِ
سلام (ہوگا)	اور آخری	پکار ان کی (ہوگی)	یکہ	سب تعریف	اللہ کے لیے ہے
وَكُو	يُعْجَلُ	اللَّهُ	لِلنَّاسِ	الشَّرَّ	أَسْتَعْجَلَهُمْ
اور اگر	جلدی کرتا	اللہ	لوگوں کے لیے	برائی کو (دینے میں)	(جیسے) جلدی مانگتا ہے ان کا
لَقَضَى	إِلَيْهِمْ	أَجَلَهُمْ ⑫	فَنذَرُ	الَّذِينَ	لَا يَرْجُونَ
البتہ پوری کر دی جائے	طرف ان کے	مدت ان کی	تو ہم چھوڑ دیتے ہیں	انہیں جو	نہیں وہ امید رکھتے
فِي طُغْيَانِهِمْ	يَعْمَهُونَ ⑬	وَإِذَا	مَسَّ	الْإِنْسَانَ	الضَّرُّ
اپنی سرکشی میں	وہ بھٹکتے پھرتے ہیں	اور جب	پہنچتی ہے	انسان کو	تکلیف
لِجَنْبِهِ	أَوْ	قَاعِدًا	أَوْ	قَابَسًا ⑭	فَلَبَّا
اپنی کروٹ پر	یا	بیٹھے ہوئے	یا	کھڑے ہوئے	پھر جب

مَرَّ	كَانَ	لَمْ	يَدْعُنَا	إِلَىٰ ضِرٍّ	مَسَّهُ	كَذَلِكَ
وہ چل دیتا ہے	گو یا کہ	نہیں	پکارا تھا اس نے ہمیں	طرف کسی تکلیف کے	جو پہنچی اسے	اسی طرح
زَيْنَ	لِلْمُسْرِفِينَ	مَا	كَانُوا	يَعْمَلُونَ	وَلَقَدْ	أَهْلَكْنَا
مزین کر دیئے گئے	حد سے بڑھنے والوں کے لیے	جو	تھے وہ	وہ عمل کرتے	اور البتہ تحقیق	ہلاک کیا ہم نے
الْقُرُونِ	مِنْ قَبْلِكُمْ	لَبَّأ	ظَلَمُوا	وَجَاءَ تَهُمُ	رُسُلُهُمُ	بِالْبَيِّنَاتِ
امتوں کو	تم سے پہلے	جب	انہوں نے ظلم کیا	اور آئے ان کے پاس	رسول ان کے	ساتھ واضح نشانیوں کے
وَمَا	كَانُوا	لِيُؤْمِنُوا	كَذَلِكَ	نَجْزِي	الْقَوْمَ	الْبُجْرِمِينَ
اور نہ	تھے وہ	کہ وہ ایمان لے آتے	اسی طرح	ہم بدلہ دیتے ہیں	ان لوگوں کو	جو مجرم ہیں
ثُمَّ	جَعَلْنَاكُمْ	خَلِيفَ	فِي الْأَرْضِ	مِنْ بَعْدِهِمْ	لِنَنْظُرَ	كَيْفَ
پھر	بنایا ہم نے تمہیں	جانشین	زمین میں	بعد ان کے	تا کہ ہم دیکھیں	کس طرح
تَعْمَلُونَ	وَإِذَا	تُتلى	عَلَيْهِمْ	آيَاتِنَا	بَيِّنَاتٍ	قَالَ
تم عمل کرتے ہو	اور جب	پڑھی جاتی ہیں	ان پر	آیات ہماری	واضح	کہتے ہیں
الَّذِينَ	لَا يَرْجُونَ	لِقَاءَنَا	أَنْتَ	بِقُرْآنٍ	غَيْرِ هَذَا	أَوْ
وہ جو	نہیں وہ امید رکھتے	ہماری ملاقات کی	لے آؤ	قرآن	علاوہ اس کے	یا
قُلْ	مَا يَكُونُ	لِيَ	أَنْ	أُبَدِّلَهُ	مِنْ تَلْقَائِي	نَفْسِي
کہہ دیجیے	نہیں	ہے	میرے لیے	کہ	میں بدل دوں اسے	اپنی طرف سے
إِنْ	اتَّبَعُ	إِلَّا	مَا	يُوحَىٰ	إِلَىٰ	إِنِّي
نہیں	میں پیروی کرتا	مگر	اس کی جو	وحی کی جاتی ہے	میری طرف	بے شک میں
عَصَيْتُ	رَبِّي	عَذَابَ	يَوْمٍ	عَظِيمٍ	قُلْ	لَوْ
نافرمانی کی میں نے	اپنے رب کی	عذاب سے	بڑے دن کے	کہہ دیجیے	اگر	چاہتا
اللَّهُ						اللَّهُ

مَا	تَكُونُ	عَلَيْكُمْ	وَلَا	أَدْرِكُكُمْ	بِهِ	فَقَدْ	لَبِثْتُ
نہ	پڑھتا میں اسے	تم پر	اور نہ	(اللہ) خبر دیتا تمہیں	اس کی	پس تحقیق	ٹھہرا رہا میں
فِيكُمْ	عُمَرًا	مِّنْ قَبْلِهِ	أَفَلَا	تَعْقِلُونَ	فَمَنْ	أَظْلَمُ	مِمَّنْ
تم میں	ایک عمر	اس سے پہلے	کیا پس نہیں	تم عقل رکھتے	تو کون	بڑا ظالم ہے	اس سے جو
اِفْتَرَىٰ	عَلَى اللَّهِ	كَذِبًا	أَوْ	كَذَّبَ	بِآيَاتِهِ	إِنَّهُ	لَا يُفْلِحُ
گھڑ لے	اللہ پر	جھوٹ	یا	وہ جھٹلائے	اس کی آیات کو	بے شک وہ	نہیں وہ فلاح پاتے
الْمُجْرِمُونَ	وَيَعْبُدُونَ	مِن دُونِ	اللَّهِ	مَا	لَا يَضُرُّهُمْ	وَلَا	
جو مجرم ہیں	اور وہ عبادت کرتے ہیں	سوائے	اللہ کے	اس کی جو	نہیں وہ نقصان دیتا نہیں	اور نہ	
يَنْفَعُهُمْ	وَيَقُولُونَ	هَؤُلَاءِ	شُفَعَاؤُنَا	عِنْدَ اللَّهِ	قُلْ	أَتُنَبِّئُونَ	
وہ نفع دیتا ہے انہیں	اور وہ کہتے ہیں	یہ ہیں	سفارشی ہمارے	اللہ کے ہاں	کہہ دیجیے	کیا تم خبر دیتے ہو	
اللَّهُ	بِمَا	لَا يَعْلَمُ	فِي السَّمَوَاتِ	وَلَا	فِي الْأَرْضِ	سُبْحٰنَهُ	وَتَعْلَىٰ
اللہ کو	اس کی جو	نہیں وہ جانتا	آسمانوں میں	اور نہ	زمین میں	پاک ہے وہ	اور وہ بلند تر ہے
عَبَا	يُشْرِكُونَ	وَمَا	كَانَ	النَّاسُ	إِلَّا	أُمَّةً	وَاحِدَةً
اس سے جو	وہ شریک ٹھہراتے ہیں	اور نہ	تھے	لوگ	مگر	اُمت	ایک ہی
فَاخْتَلَفُوا	وَكَوَلَا	كَلِمَةً	سَبَقَتْ	مِن رَّبِّكَ	لَقَضَىٰ		
پھر انہوں نے اختلاف کیا	اور اگر نہ ہوتی	ایک بات	جو طے ہو چکی	آپ کے رب کی طرف سے	البتہ فیصلہ کر دیا جاتا		
بَيْنَهُمْ	فِيمَا	فِيهِ	يَخْتَلِفُونَ	وَيَقُولُونَ	لَوْلَا	أُنزِلَ	
درمیان ان کے	اس معاملے میں	جس میں	وہ اختلاف کر رہے تھے	اور وہ کہتے ہیں	کیوں نہ	اتاری گئی	
عَلَيْهِ	آيَةٌ	مِّن رَّبِّهِ	فَقُلْ	إِنَّمَا	الْغَيْبُ	لِلَّهِ	فَأَنْتَظِرُونَ
اس پر	کوئی نشانی	اس کے رب کی طرف سے	تو کہہ دیجیے	بے شک	غیب	اللہ ہی کے لیے ہے	پس تم انتظار کرو

إِنِّي	مَعَكُمْ	مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ٢٠	وَإِذَا	أَذَقْنَا	النَّاسَ	رَحْمَةً
بے شک میں	تمہارے ساتھ	انتظار کرنے والوں میں سے ہوں	اور جب	مزہ چکھاتے ہیں ہم	لوگوں کو	رحمت کا
مِّنْ بَعْدِ	ضُرَاءٍ	مَسْتُهُمْ	إِذَا	لَهُمْ	مَكْرٌ	فِي آيَاتِنَا ٢١
بعد	مصیبت کے	جو پہنچی انہیں	تب	ان کے لیے	چالیں چلانا ہے	ہماری آیات میں
اللَّهُ	أَسْرَعُ	مَكْرًا ٢١	إِنَّ	رُسُلَنَا	يَكْتُبُونَ	مَا تَكْفُرُونَ ٢١
اللہ	زیادہ تیز ہے	چال چلنے میں	بے شک	فرشتے ہمارے	لکھ رہے ہیں	جو تم چالیں چل رہے ہو
هُوَ	الَّذِي	يَسِيرُكُمْ	فِي الْبَرِّ	وَالْبَحْرِ ٢٢	حَتَّىٰ	إِذَا كُنْتُمْ
وہی ہے	جو	چلاتا ہے تمہیں	خشکی میں	اور سمندر میں	یہاں تک کہ	جب ہوتے ہو تم
فِي الْفُلِكِ ٢٣	وَجَرَيْنِ	بِهِمْ	بِرِيحٍ	طَيِّبَةٍ	وَفَرِحُوا	بِهَا
کشتیوں میں	اور وہ لے چلتی ہیں	انہیں	ساتھ ہوا	عمدہ کے	اور وہ خوش ہوتے ہیں	ساتھ اس کے
جَاءَتْهَا	رِيحٌ	عَاصِفٌ	وَجَاءَهُمْ	الْمَوْجُ	مِن كُلِّ مَكَانٍ	
آجاتی ہے ان (کشتیوں) پر	ہوا	شدید	اور آجاتی ہے ان پر	موج	ہر طرف سے	
وَقَنُوتًا	أَنَّهُمْ	أَحْيَطُ	بِهِمْ ٢٤	دَعَا	اللَّهُ	مُخْلِصِينَ لَهُ
اور وہ سمجھتے ہیں	کہ بے شک وہ	گھیر لیا گیا ہے	انہیں	وہ پکارتے ہیں	اللہ کو	خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے
الدِّينَ ٢٥	لَيْنٌ	أَنْجَيْنَا	مِنْ هَذِهِ	لَنَكُونَنَّ	مِنَ الشَّاكِرِينَ ٢٢	
دین کو	البتہ اگر	نجات دی تو نے ہمیں	اس سے	البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے	شکر گزاروں میں سے	
فَلَمَّا	أَنْجَاهُمْ	إِذَا	هُمْ	يَبْغُونَ	فِي الْأَرْضِ	بِغَيْرِ الْحَقِّ ٢٦
پھر جب	وہ نجات دے دیتا ہے انہیں	تب	وہ	وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں	زمین میں	بغیر حق کے
يَأَيُّهَا النَّاسُ	إِنَّمَا	بَغَيْكُمْ	عَلَىٰ	أَنْفُسِكُمْ ٢٧	مَتَاعَ	الْحَيَاةِ
اے لوگو	بے شک	بغاوت تمہاری	تمہارے اپنے خلاف ہے	فائدہ اٹھانا ہے	زندگی کا	

الدُّنْيَا	ثُمَّ	إِلَيْنَا	مَرْجِعَكُمْ	فَنُنَبِّئُكُمْ	بِمَا	كُنْتُمْ
دنیا کی	پھر	ہماری ہی طرف	لوٹنا ہے تمہارا	پھر ہم بتائیں گے تمہیں	وہ جو	تھے تم
تَعْمَلُونَ ²³	إِنَّمَا	مِثْلُ	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	كَمَا	أَنْزَلْنَاهُ	
تم عمل کرتے رہے	بے شک	مثال	دنیا کی زندگی کی	پانی کی طرح ہے	اتارا ہم نے اسے	
مِنَ السَّمَاءِ	فَاخْتَلَطَ	بِهِ	نَبَاتُ	الْأَرْضِ	مِمَّا	يَأْكُلُ
آسمان سے	پھریل جل گئی	ساتھ اس کے	نباتات	زمین کی	اس میں سے جو	کھاتے ہیں
النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ ^ط	حَتَّىٰ	إِذَا	أَخَذَتِ	الْأَرْضُ	زُخْرُفَهَا	
لوگ اور جانور (مویشی)	یہاں تک کہ	جب	پکڑ لیا	زمین نے	اپنی رونق کو	
وَأَزَيَّنَّتْ	وَظَنَّ	أَهْلَهَا	أَنَّهُمْ	قَادِرُونَ	عَلَيْهَا ^{لا}	أَتَهَا
اور وہ مزین ہو گئی	اور سمجھ لیا	اس کے رہنے والوں نے	بے شک وہ	قادر ہیں	اس پر	آگیا اس پر
أَمْرًا	لَيْلًا	أَوْ	نَهَارًا	فَجَعَلْنَاهَا	حَصِيدًا	كَأَنَّ
حکم ہمارا	رات کو	یا	دن کو	تو کر دیا ہم نے اسے	کٹی ہوئی بھتی	گویا کہ
لَمَّ	تَغْنُ					
وہ بستی تھی						
بِالْأَمْسِ ^ط	كَذَلِكَ	نُفِصِلُ	الْآيَاتِ	لِقَوْمٍ	يَتَفَكَّرُونَ ²⁴	
کل	اسی طرح	ہم کھول کر بیان کرتے ہیں	آیات	ان لوگوں کے لیے	جو غور و فکر کرتے ہیں	
وَاللَّهُ	يَدْعُوا	إِلَىٰ	دَارِ السَّلَامِ ^ط	وَيَهْدِي	مَنْ	يَشَاءُ
اور اللہ	وہ بلا رہا ہے	طرف	سلامتی والے گھر کے	اور وہ ہدایت دیتا ہے	جسے	وہ چاہتا ہے
إِلَىٰ صِرَاطٍ	مُسْتَقِيمٍ ²⁵	لِلَّذِينَ	أَحْسَنُوا	الْحُسْنَىٰ	وَزِيَادَةٌ ^ط	
طرف راستے	سیدھے کے	ان کے لیے جنہوں نے	اچھا کیا	اچھائی ہے	اور زیادہ بھی	
وَلَا	يُرْهَقُ	وَجُوهَهُمْ	قَتْرٌ	وَلَا	ذِلَّةٌ ^ط	أُولَٰئِكَ
اور نہ	چھائے گی	ان کے چہروں پر	سیاہی	اور نہ	ذلت	یہی لوگ ہیں
أَصْحَابُ						ساحی

الْجَنَّةِ ج	هُمْ فِيهَا	خُلِدُونَ 26	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
جنت کے	وہ اس میں	ہمیشہ رہنے والے ہیں	اور وہ جنہوں نے کمائیں برائیاں (تو) بدلہ
سَيِّئَاتِهِمْ	بِمِثْلِهَا	وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط	مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
برائی کا	اسی کی مانند ہے	اور چھپ جائے گی ان پر	ذلت ان کے لیے نہیں ہے
مِنْ عَاصِمٍ ج	كَانِبًا	أُغْشِيَتْ	وَجُوهُهُمْ قِطْعًا
کوئی بچانے والا	گویا کہ	ڈھانپ دیئے گئے ہیں	چہرے ان کے ٹکڑوں سے
مُظْلِمًا ط	أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ج	هُمْ فِيهَا	خُلِدُونَ 27
تاریک	یہی لوگ ہیں	ساتھی	آگ کے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جس دن
نَحْشُرُهُمْ	جَبِيعًا	ثُمَّ نَقُولُ	لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
ہم اکٹھا کریں گے ان کو	سب کے سب کو	پھر ہم کہیں گے	ان کو جنہوں نے شرک کیا (ٹھہرو) اپنی جگہ
أَنْتُمْ	وَشُرَكَاءُكُمْ ج	فَزَيَّلْنَا	بَيْنَهُمْ
تم	اور شریک تمہارے	تو جدائی ڈال دیں گے ہم	درمیان ان کے اور کہیں گے
مَا كُنْتُمْ	إِيَّانَا	تَعْبُدُونَ 28	فَكَفَى بِاللَّهِ
نہ تھے تم	صرف ہماری ہی	تم عبادت کرتے	پس کافی ہے اللہ
وَبَيْنَكُمْ	إِنْ كُنَّا	عَنْ عِبَادَتِكُمْ	لَغْفَلِينَ 29
اور درمیان تمہارے	بے شک تھے ہم	تمہاری عبادت سے	البتہ غافل
كُلُّ نَفْسٍ مَّا	أَسْلَفَتْ	وَرُدُّوْا	إِلَى اللَّهِ
ہر نفس جو	اس نے پہلے کیا	اور وہ لوٹائے جائیں گے	طرف اللہ کے جو مولیٰ ہے ان کا
وَضَلَّ عَنْهُمْ	مَا كَانُوا	يَفْتَرُونَ ع	قُلْ
ان سے جو	تھے وہ	وہ گھڑتے	کہہ دیجیے کون
يَرْزُقُكُمْ	مَنْ يَرْزُقُكُمْ	مَنْ يَرْزُقُكُمْ	مَنْ يَرْزُقُكُمْ
رِزق دیتا ہے تمہیں	کون	کون	کون

مِّنَ السَّمَاءِ	وَالْأَرْضِ	أَمَّنْ	يَمْلِكُ	السَّمْعَ	وَالْأَبْصَارَ	وَمَنْ
آسمان سے	اور زمین سے	یا کون	مالک ہو سکتا ہے	کانوں	اور آنکھوں کا	اور کون
يُخْرِجُ	الْحَيَّ	مِنَ الْبَيْتِ	وَيُخْرِجُ	الْبَيْتَ	مِنَ الْحَيِّ	وَمَنْ
نکالتا ہے	زندہ کو	مردہ سے	اور نکالتا ہے	مردہ کو	زندہ سے	اور کون
يُدَبِّرُ	الْأَمْرَ	فَسَيَقُولُونَ	اللَّهُ	فَقُلْ	أَفَلَا	تَتَّقُونَ 31
تدبیر کرتا ہے	کام کی	تو وہ ضرور کہیں گے	اللہ	تو کہہ دیجیے	کیا بھلا نہیں	تم ڈرتے
فَذَلِكُمْ	اللَّهُ	رَبُّكُمْ	الْحَقُّ	فَمَاذَا	بَعْدَ الْحَقِّ	إِلَّا الضَّلُّ 32
پس یہ ہے	اللہ	رب تمہارا	سچا	تو کیا کچھ ہے	بعد	حق کے سوائے گمراہی کے
فَأَنى	تُصْرَفُونَ 32	كَذَلِكَ	حَقَّتْ	كَلِمَتُ	رَبِّكَ	عَلَى الَّذِينَ
تو کہاں/کدھر	تم پھیرے جاتے ہو	اسی طرح	حق ہو گئی	بات	آپ کے رب کی	ان پر جنہوں نے
فَسَقَوْا	أَنَّهُمْ	لَا يُؤْمِنُونَ 33	قُلْ	هَلْ	مِنْ شُرَكَائِكُمْ	مَنْ
نافرمانی کی	بے شک وہ	نہیں وہ ایمان لائیں گے	کہہ دیجیے	کیا ہے	تمہارے شریکوں میں سے کوئی	جو
يَبْدَأُ	الْخَلْقَ	ثُمَّ	يُعِيدُهُ	قُلْ	اللَّهُ	يَبْدَأُ
ابتدا کرتا ہو	تخلیق کی	پھر	وہ لوٹاتا ہو اسے	کہہ دیجیے	اللہ	وہ ابتدا کرتا ہے
ثُمَّ	يُعِيدُهُ	فَأَنى	تُؤْفَكُونَ 34	قُلْ	هَلْ	مِنْ شُرَكَائِكُمْ
پھر	وہی لوٹائے گا اسے	تو کہاں/کدھر	تم پھیرے جاتے ہو	کہہ دیجیے	کیا ہے	تمہارے شریکوں میں سے کوئی
مَنْ	يَهْدِي	إِلَى الْحَقِّ ط	قُلْ	اللَّهُ	يَهْدِي	لِلْحَقِّ ط
جو	راہ نمائی کرتا ہو	طرف حق کے	کہہ دیجیے	اللہ	وہ راہ نمائی کرتا ہے	طرف حق کے
يَهْدِي	إِلَى الْحَقِّ	أَحَقُّ	أَنْ	يُتَّبَعَ	أَمَّنْ	إِلَّا
راہ نمائی کرتا ہے	طرف حق کے	زیادہ حق دار ہے	کہ	وہ پیروی کیا جائے	یا جو	نہیں وہ راہ پاتا

أَنْ يَهْدَى ج	فَبَا	لَكُمْ قف	كَيْفَ	تَحْكُمُونَ 35	وَمَا	يَتَّبِعُ
یکہ	وہ راہ نمائی کیا جائے	تمہیں	کیسے	تم فیصلے کرتے ہو	اور نہیں	پیروی کرتے
أَكْثَرَهُمْ	إِلَّا ظَنًّا ط	إِنَّ	الظَّنَّ	لَا يُغْنِي	مِنَ الْحَقِّ	شَيْعًا ط
اکثر ان کے	مگر	بے شک	گمان	نہیں کام آتا	حق کے مقابلے میں	کچھ بھی
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ	بِمَا يَفْعَلُونَ 36	وَمَا	كَانَ	هَذَا الْقُرْآنُ		
بے شک	اللہ	خوب جاننے والا ہے	اسے جو	وہ کر رہے ہیں	اور نہیں	ہے
أَنْ يُفْتَرَى	مِنْ دُونِ	اللَّهِ	وَلَكِنْ	تَصْدِيقَ	الَّذِي	بَيْنَ يَدَيْهِ
کہ	وہ گھڑ لیا جائے	سوائے	اللہ کے	اور لیکن	تصدیق ہے	اس چیز کی جو
وَتَفْصِيلَ	الْكِتَابِ	لَا رَيْبَ	فِيهِ	مِنْ رَبِّ	الْعَالَمِينَ 37	أَمْ
اور تفصیل ہے	کتاب کی	نہیں کوئی شک	اس میں	رب کی طرف سے ہے	تمام جہانوں کے	یا
يَقُولُونَ	افْتَرَاهُ ط	قُلْ	فَاتُوا	بِسُورَةٍ	مِثْلِهِ	وَادْعُوا مَنْ
وہ کہتے ہیں	اس نے گھڑ لیا ہے اسے	کہہ دیجیے	پس لے آؤ	ایک سورت	اس جیسی	اور بلا لو
اسْتَطَعْتُمْ	مَنْ دُونِ	اللَّهِ	إِنْ كُنْتُمْ	صَادِقِينَ 38	بَلْ كَذَّبُوا	
استطاعت رکھتے ہو تم	سوائے	اللہ کے	اگر	ہو تم	سچے	بلکہ
بِمَا لَمْ	يُحِيطُوا	بِعِلْمِهِ	وَلَبَّأ	يَأْتِهِمْ	تَأْوِيلُهُ ط	
اسے جو	نہیں	انہوں نے احاطہ کیا	جس کے علم کا	حالانکہ نہیں	آئی ان کے پاس	تاویل/حقیقت اس کی
كَذَلِكَ	كَذَّبَ	الَّذِينَ	مِنْ قَبْلِهِمْ	فَانظُرْ	كَيْفَ	كَانَ
اسی طرح	جھٹلایا	ان لوگوں نے جو	ان سے پہلے تھے	تو دیکھو	کس طرح	ہوا
عَاقِبَةُ	الظَّالِمِينَ 39	وَمِنْهُمْ	مَنْ	يُؤْمِنُ	بِهِ	وَمِنْهُمْ
انجام	ظالموں کا	اور ان میں سے کوئی ہے	جو	ایمان لاتا ہے	اس پر	اور ان میں سے کوئی ہے

مَنْ لَا يُؤْمِنُ	بِهِ	وَرَبُّكَ	أَعْلَمُ	بِالْفٰسِدِيْنَ	وَإِنْ
جو	نہیں وہ ایمان لاتا	اس پر	اور رب آپ کا	خوب جانتا ہے	فساد کرنے والوں کو
كَذَّبُواكَ	فَقُلْ	لِيْ	عَمِيْ	وَلَكُمْ	عَمَلِكُمْ
وہ جھٹلائیں آپ کو	تو کہہ دیجیے	میرے لیے ہے	عمل میرا	اور تمہارے لیے ہے	عمل تمہارا
بَرِيْعُونَ	مِمَّا	أَعْمَلُ	وَأَنَا	بَرِيْعٌ	مِمَّا
بری الذمہ ہو	اس سے جو	میں عمل کرتا ہوں	اور میں	بری الذمہ ہوں	اس سے جو
مَنْ	لَيْسْتَبْعُونَ	إِلَيْكَ	أَفَأَنْتَ	تَسْبِعُ	الصَّمَّ
جو	کان لگاتے ہیں	طرف آپ کے	کیا پھر آپ	سنائیں گے	بہروں کو
كَانُوا	لَا يَعْقِلُونَ	وَمِنْهُمْ	مَنْ	يَنْظُرُ	إِلَيْكَ
ہوں وہ	نہ وہ عقل رکھتے	اور ان میں سے کوئی ہے	جو	دیکھتا ہے	طرف آپ کے
تَهْدِي	الْعَمَى	وَلَوْ	كَانُوا	لَا يُبْصِرُونَ	إِنَّ
راہ دکھائیں گے	اندھوں کو	اور اگرچہ	ہوں وہ	نہ وہ دیکھتے	بے شک
لَا يُظْلِمُ	النَّاسَ	شَيْئًا	وَلَكِنَّ	النَّاسَ	أَنْفُسَهُمْ
نہیں ظلم کرتا	لوگوں پر	کچھ بھی	اور لیکن	لوگ	اپنی ہی جانوں پر
وَيَوْمَ	يَحْشُرُهُمْ	كَانَ	لَمْ	يَلْبَثُوا	إِلَّا
اور جس دن	وہ اکٹھا کرے گا انہیں	گویا کہ	نہیں	وہ ٹھہرے	مگر
يَتَعَارَفُونَ	بَيْنَهُمْ	قَدْ	خَسِرَ	الَّذِينَ	كَذَّبُوا
وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے	آپس میں	تحقیق	خسارہ پایا	جنہوں نے	جھٹلایا
اللَّهُ	وَمَا	كَانُوا	مُهْتَدِينَ	وَإِنَّمَا	نُرِيَنَّكَ
اللہ کی	اور نہ	تھے وہ	ہدایت پانے والے	اور اگر	ہم دکھائیں آپ کو

نَعْدَهُمْ	أَوْ	تَتَوَفَّيْنَاكَ	فَالْيَنَّا	مَرَجَعَهُمْ	ثُمَّ	اللَّهُ	شَهِيدٌ
ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے	یا	ہم فوت کر دیں آپ کو	تو طرف ہمارے ہی	لوٹنا ہے ان کا	پھر	اللہ	خوب گواہ ہے
عَلَىٰ	مَا	يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾	وَلِكُلِّ	أُمَّةٍ	رَّسُولٍ	فَإِذَا	جَاءَ
اس پر	جو	وہ کرتے ہیں	اور واسطے ہر	امت کے	ایک رسول ہے	پھر جب	آجاتا ہے
رَسُولَهُمْ	قَضَىٰ	بَيْنَهُمْ	بِالْقِسْطِ	وَهُمْ	لَا	يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾	
رسول ان کا	فیصلہ کر دیا جاتا ہے	درمیان ان کے	ساتھ انصاف کے	اور وہ	نہیں وہ ظلم کیے جاتے		
وَيَقُولُونَ	مَتَىٰ	هَذَا الْوَعْدُ	إِنْ	كُنْتُمْ	صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾	قُلْ	
اور وہ کہتے ہیں	کب ہوگا	یہ وعدہ	اگر	ہو تم	سچے	کہہ دیجیے	
لَا أَمْلِكُ	لِنَفْسِي	ضَرًّا	وَلَا	نَفْعًا	إِلَّا	مَا	شَاءَ اللَّهُ
نہیں میں مالک	اپنی جان کے لیے	کسی نقصان کا	اور نہ	کسی نفع کا	مگر	جو	چاہے اللہ
لِكُلِّ	أُمَّةٍ	أَجَلٌ	ط	إِذَا	جَاءَ	أَجَلُهُمْ	فَلَا
واسطے ہر	امت کے	ایک مقرر مدت ہے	جب	آجائے گی	مقرر مدت ان کی	تو نہیں	وہ پیچھے رہ سکیں گے
سَاعَةً	وَلَا	يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾	قُلْ	أَرَعَيْتُمْ	إِنْ	آتَاكُمْ	
ایک گھڑی	اور نہ	وہ آگے بڑھ سکیں گے	کہہ دیجیے	کیا غور کیا تم نے	اگر	آجائے تمہارے پاس	
عَذَابُهُ	بَيَاتًا	أَوْ	نَهَارًا	مَاذَا	يَسْتَعْجِلُ	مِنْهُ	الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾
عذاب اس کا	رات کو	یا	دن کو	کیا ہے	(جو) وہ جلدی طلب کر رہے ہیں	اس میں سے	مجرم
أَنْتُمْ	إِذَا مَا	وَقَعَ	أَمْنُكُمْ	بِهِ	أَلَنْ	وَقَدْ	كُنْتُمْ
کیا پھر	جو نبی	وہ واقع ہوگا	(تب) ایمان لاؤ گے تم	اس پر	کیا اب	حالانکہ تحقیق	تھے تم
بِهِ	تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾	ثُمَّ	قِيلَ	لِلَّذِينَ	ظَلَمُوا	ذُوقُوا	عَذَابَ
اسی کو	تم جلدی طلب کیا کرتے	پھر	کہا جائے گا	ان کو جنہوں نے	ظلم کیا	چکھو	عذاب

الْخُلْدِ ۚ	هَلْ	تُجْزَوْنَ	إِلَّا	بِمَا	كُنْتُمْ	تَكْسِبُونَ 52
بیشگی کا	نہیں	تم بدلہ دینے جا رہے	مگر	اس کا جو	تھے تم	تم کمائی کرتے
وَيَسْتَبْشِرُونَكَ	أَحَقُّ	هُوَ ۗ	قُلْ	إِنِّي	وَرَبِّي	إِنَّهُ لَحَقُّ ۗ
اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے	کیا سچ ہے	وہ	کہہ دیجیے	ہاں	قسم ہے میرے رب کی	بے شک وہ یقیناً حق ہے
وَمَا	أَنْتُمْ	بِمُعْجِزِينَ 53	وَلَوْ	أَنَّ	لِكُلِّ	نَفْسٍ
اور نہیں	تم	عاجز کرنے والے	اور اگر	بے شک ہو	ہر نفس کے لیے	جس نے ظلم کیا
مَا فِي الْأَرْضِ	لَا فُتِدَتْ	بِهِ ۗ	وَأَسْرُوا	النَّدَامَةَ	لَبَّأ	رَأَوْا
جو کچھ	زمین میں ہے	البتہ وہ ندمیدے دے	اس کا	اور وہ چھپائیں گے	ندامت کو	جب وہ دیکھیں گے
الْعَذَابِ ۚ	وَقُضِيَ	بَيْنَهُمْ	بِالْقِسْطِ	وَهُمْ	لَا يُظْلَمُونَ 54	أَلَّا
عذاب	اور فیصلہ کر دیا جائے گا	درمیان ان کے	ساتھ انصاف کے	اور وہ	ندوہ ظلم کیے جائیں گے	خبردار
إِنَّ	لِلَّهِ	مَا فِي السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ ۗ	أَلَّا	إِنَّ	وَعَدَ اللَّهُ
بے شک	اللہ ہی کے لیے ہے	آسمانوں میں	اور زمین میں ہے	خبردار	بے شک	وعدہ اللہ کا
حَقٌّ	وَلَكِنَّ	أَكْثَرَهُمْ	لَا يَعْلَمُونَ 55	هُوَ	يُحْيِي	وَيُمِيتُ
سچا ہے	اور لیکن	اکثر ان کے	نہیں وہ علم رکھتے	وہی	وہ زندہ کرتا ہے	اور وہ موت دیتا ہے
تُرْجَعُونَ 56	يَا أَيُّهَا النَّاسُ	قَدْ	جَاءَتْكُمْ	مَوْعِظَةٌ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ
تم لوٹائے جاؤ گے	اے لوگو	تحقیق	آچلی تمہارے پاس	ایک نصیحت	تمہارے رب کی طرف سے	
وَشِفَاءٌ	لِّمَا	فِي الصُّدُورِ ۗ	وَهْدًى	وَرَحْمَةً	لِّلْمُؤْمِنِينَ 57	
اور شفا	اس کے لیے جو	سینوں میں ہے	اور ہدایت	اور رحمت	ایمان لانے والوں کے لیے	
قُلْ	بِفَضْلِ	اللَّهِ	وَبِرَحْمَتِهِ	فِيذَلِكَ	فَلْيَفْرَحُوا ۗ	هُوَ
کہہ دیجیے	ساتھ اللہ کے فضل کے	اور اس کی رحمت کے	تو اس پر	پس ضرور وہ خوش ہوں	وہ	بہتر ہے

مِمَّا	يَجْمَعُونَ 58	قُلْ	أَرَأَيْتُمْ	مَا	أَنْزَلَ	اللَّهُ	لَكُمْ
اس سے جو	وہ جمع کرتے ہیں	کہہ دیجیے	کیا غور کیا تم نے	جو	نازل کیا	اللہ نے	تمہارے لیے
مِنْ رِزْقٍ	فَجَعَلْتُمْ	مِنْهُ	حَرَامًا	وَ حَلَالًا ط	قُلْ	اللَّهُ	أَذِنَ
رزق میں سے	تو بنا لیا تم نے	اس میں سے	کچھ حرام	اور کچھ حلال	کہہ دیجیے	کیا اللہ نے	اجازت دی ہے
لَكُمْ	أَمْ عَلَى اللَّهِ	تَفْتَرُونَ 59	وَمَا	ظُنُّ	الَّذِينَ	يَفْتَرُونَ	
تمہیں	یا اللہ پر	تم جھوٹ گھڑتے ہو	اور کیا ہے	گمان	ان کا جو	گھڑتے ہیں	
عَلَى اللَّهِ	الْكَذِبِ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط	إِنَّ	اللَّهُ	لَذُو فَضْلٍ	عَلَى النَّاسِ	
اللہ پر	جھوٹ	قیامت کے دن میں	بے شک	اللہ	البتہ نفل والا ہے	لوگوں پر	
وَلَكِنَّ	أَكْثَرَهُمْ	لَا يَشْكُرُونَ ع	وَمَا	تَكُونُ	فِي شَأْنٍ	وَمَا	
اور لیکن	اکثر ان کے	نہیں وہ شکر کرتے	اور نہیں	آپ ہوتے	کسی حال میں	اور نہیں	
تَتَلَوْا	مِنْهُ	مِنْ قُرْآنٍ	وَلَا	تَعْمَلُونَ	مِنْ عَمَلٍ	إِلَّا كُنَّا	
آپ پڑھتے	اس (کی طرف) سے	کچھ قرآن	اور نہیں	تم عمل کرتے ہو	کوئی عمل	مگر ہوتے ہیں ہم	
عَلَيْكُمْ	شُهُودًا	إِذْ	تَفِيضُونَ	فِيهِ ط	وَمَا	يَعْرَبُ	عَنْ رَبِّكَ
تم پر	شاہد/گواہ	جب	تم مشغول ہوتے ہو	اس میں	اور نہیں	چھپتا	آپ کے رب سے
مِنْ مِّثْقَالِ	ذَرَّةٍ	فِي الْأَرْضِ	وَلَا	فِي السَّمَاءِ	وَلَا	أَصْغَرَ	
ہم وزن	ذرے کے	زمین میں	اور نہ	آسمان میں	اور نہ	چھوٹا	
مِنْ ذَلِكَ	وَلَا	الْأَكْبَرَ	إِلَّا	فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 61	الْآ	إِنَّ	أَوْلِيَاءَ
اس سے	اور نہ	بڑا	مگر	ایک کھلی کتاب میں ہے	خبردار	بے شک	دوست
اللَّهُ	لَا خَوْفٌ	عَلَيْهِمْ	وَلَا	هُمْ	يَحْزَنُونَ 62	الَّذِينَ	أَمَنُوا
اللہ کے	نہ کوئی خوف ہوگا	ان پر	اور نہ	وہ	وہ غمگین ہوں گے	وہ جو	ایمان لائے

وَكَانُوا	يَتَّقُونَ 63 ط	لَهُمْ	الْبُشْرَى	فِي الْحَيَاةِ	الدُّنْيَا
اور ہیں وہ	وہ تقویٰ کرتے	انہی کے لیے	خوش خبری ہے	زندگی میں	دنیا کی
وَفِي الْآخِرَةِ ط	لَا تَبْدِيلَ	لِكَلِمَاتِ	اللَّهِ ط	ذَلِكَ	هُوَ الْفَوْزُ
اور آخرت میں	نہیں تبدیل ہونا	کلمات کو	اللہ کے	یہ ہے	وہی کامیابی
الْعَظِيمِ 64 ط	وَلَا	يَحْزُنُكَ	قَوْلُهُمْ م	إِنَّ	الْعِزَّةَ لِلَّهِ
بہت بڑی	اور نہ	غمگین کرے آپ کو	بات ان کی	بے شک	عزت اللہ ہی کے لیے ہے
جَمِيعًا ط	هُوَ	السَّبِيحُ	الْعَلِيمُ 65 ط	إِنَّ	اللَّهِ
ساری کی ساری	وہ	خوب سننے والا ہے	خوب جاننے والا ہے	خبردار	بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی
فِي السَّمَوَاتِ	وَمَنْ	فِي الْأَرْضِ ط	وَمَا	يَتَّبِعُ	الَّذِينَ
آسمانوں میں ہے	اور جو کوئی	زمین میں ہے	اور کس کی	پیروی کرتے ہیں	وہ لوگ جو پکارتے ہیں
مِنْ دُونِ	اللَّهِ	شُرَكَاءَ ط	إِنْ	يَتَّبِعُونَ	إِلَّا الظَّنَّ
سوائے	اللہ کے	شریکوں کو	نہیں	وہ پیروی کرتے	مگر گمان کی اور نہیں وہ
إِلَّا	يَخْرُصُونَ 66 ط	هُوَ	الَّذِي	جَعَلَ	لَكُمْ
مگر	وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں	وہی ہے	جس نے	بنایا	تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو
فِيهِ	وَالنَّهَارَ	مُبْصِرًا ط	إِنَّ	فِي ذَلِكَ	لَايَاتٍ
اس میں	اور دن کو	روشن/ دکھانے والا	بے شک	اس میں	البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
يَسْعَوْنَ 67 ط	قَالُوا	اتَّخَذَ	اللَّهُ	وَلَدًا	سُبْحَنَهُ ط
جو سستے ہیں	انہوں نے کہا	بنالی	اللہ نے	اولاد	پاک ہے وہ وہ بہت بے نیاز ہے
لَهُ	مَا	فِي السَّمَوَاتِ	وَمَا	فِي الْأَرْضِ ط	إِنْ
اسی کے لیے ہے	جو کچھ	آسمانوں میں ہے	اور جو کچھ	زمین میں ہے	نہیں تمہارے پاس

مَنْ سُلْطِنٍ	بِهَذَا	آتَقُوونَ	عَلَى اللَّهِ	مَا	لَا تَعْلَمُونَ	قُلْ
کوئی دلیل	اس کی	کیا تم کہتے ہو	اللہ پر	جو	نہیں تم جانتے	کہہ دیجیے
إِنَّ الَّذِينَ	يَفْتَرُونَ	عَلَى اللَّهِ	الْكَذِبَ	لَا يُفْلِحُونَ	مَتَاعٌ	
بے شک	وہ لوگ جو	گھرتے ہیں	اللہ پر	جھوٹ	نہیں وہ فلاح پائیں گے	فائدہ اٹھانا ہے
فِي الدُّنْيَا	ثُمَّ	إِلَيْنَا	مَرْجِعُهُمْ	ثُمَّ	نَذِيْقُهُمُ	العَذَابَ الشَّدِيدَ
دنیا میں	پھر	طرف ہمارے ہی	لوٹنا ہے ان کا	پھر	ہم چکھائیں گے انہیں	عذاب سخت/شدید
بِئْسَ	كَانُوا	يَكْفُرُونَ	وَآتُوا	عَلَيْهِمْ	نَبَأًا	نُوحٍ
بوجہ اس کے جو	تھے وہ	وہ کفر کرتے	اور پڑھیے	ان پر	خبر	نوح کی
لِقَوْمِهِ	يَقُومِ	إِنْ	كَانَ	كَبِيرٌ	عَلَيْكُمْ	مَقَامِي
اپنی قوم سے	اے میری قوم	اگر	ہے	بھاری	تم پر	کھڑا ہونا میرا
بِآيَاتِ اللَّهِ	فَعَلَى اللَّهِ	تَوَكَّلْتُ	فَأَجْبِعُوا	أَمْرَكُمْ	وَشُرَكَاءَكُمُ	
ساتھ اللہ کی آیات کے	تو اللہ ہی پر	توکل کیا میں نے	تو پختہ کر لو تم	معاملہ اپنا	اور شریک تمہارے (بھی)	
ثُمَّ	لَا يَكُنْ	أَمْرَكُمْ	عَلَيْكُمْ	عِمَّةٌ	ثُمَّ	اقضُوا
پھر	نہ ہو	معاملہ تمہارا	تم پر	پوشیدہ/خفی	پھر	فیصلہ کر لو
وَلَا	تُنْظَرُونَ	فَإِنْ	تَوَلَّيْتُمْ	فَمَا	سَأَلْتَكُمْ	مِنْ أَجْرٍ
اور نہ	تم مہلت دو مجھے	پھر اگر	منہ پھیر لو تم	تو نہیں	مانگا میں نے تم سے	کوئی اجر
أَجْرِي	إِلَّا	عَلَى اللَّهِ	وَأُمِرْتُ	أَنْ	أَكُونَ	مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اجر میرا	مگر	اللہ پر	اور میں حکم دیا گیا ہوں	کہ	میں ہو جاؤں	فرماں برداروں میں سے
فَكَذَّبُوهُ	فَنَجَّيْنَاهُ	وَمَنْ	مَعَهُ	فِي الْفُلْكِ	وَجَعَلْنَاهُمْ	
تو انہوں نے جھٹلادیا سے	پس نجات دی ہم نے اسے	اور ان کو جو	اس کے ساتھ تھے	کشتی میں	اور بنایا ہم نے انہیں	

خَلِيفَ	وَ اَخْرَقْنَا	الَّذِينَ	كَذَّبُوا	بَايَاتِنَا	فَانظُرْ	كَيْفَ	كَانَ
جانشین	اور غرق کر دیا ہم نے	ان کو جنہوں نے	جھٹلایا	ہماری آیات کو	تو دیکھو	کیسا	ہوا
عَاقِبَةُ	الْمُنذِرِينَ 73	ثُمَّ	بَعَثْنَا	مِنْ بَعْدِهِ	رُسُلًا	اِلَى قَوْمِهِمْ	
انجام	ڈرائے جانے والوں کا	پھر	بھیجے ہم نے	بعد اس کے	کئی رسول	طرف ان کی قوم کے	
فَجَاءَهُمْ	بِالْبَيِّنَاتِ	فَمَا	كَانُوا	لِيُؤْمِنُوا	بِهَا	كَذَّبُوا	بِهِ
تو وہ آئے ان کے پاس	ساتھ واضح دلائل کے	تو نہ	تھے وہ	کہ وہ ایمان لاتے	بوجہ اس کے جو	وہ جھٹلا چکے تھے	اسے
مِنْ قَبْلُ 74	كَذَلِكَ	نَطْبَعُ	عَلَى قُلُوبِ	الْمُعْتَدِينَ 74	ثُمَّ	بَعَثْنَا	
اس سے پہلے	اسی طرح	ہم مہر لگا دیتے ہیں	دلوں پر	حد سے تجاوز کرنے والوں کے	پھر	بھیجا ہم نے	
مِنْ بَعْدِهِمْ	مُوسَى	وَهُرُونَ	اِلَى فِرْعَوْنَ	وَمَلَأَيْهِ	بَايَاتِنَا		
بعد ان کے	موسیٰ	اور ہارون کو	طرف فرعون	اور اس کے سرداروں کے	ساتھ اپنی آیات کے		
فَاسْتَكْبَرُوا	وَكَانُوا	قَوْمًا	مُجْرِمِينَ 75	فَلَمَّا	جَاءَهُمُ	الْحَقُّ	
تو انہوں نے تکبر کیا	اور تھے وہ	لوگ	مجرم	تو جب	آیا ان کے پاس	حق	
مِنْ عِنْدِنَا	قَالُوا	إِنَّ	هَذَا	لَسِحْرٌ	مُبِينٌ 76	قَالَ	مُوسَى
ہماری طرف سے	انہوں نے کہا	یقیناً	یہ	البتہ جادو ہے	کھلم کھلا	کہا	موسیٰ نے
اتَقُولُونَ	لِلْحَقِّ	لَمَّا	جَاءَكُمْ 76	أَسْحَرُ	هَذَا 76	وَلَا	يُفْلِحُ
کیا تم کہتے ہو	حق کو (جادو)	جب	وہ آ گیا تمہارے پاس	کیا جادو ہے	یہ	حالانکہ نہیں	فلاح پاتے
السَّحْرُونَ 77	قَالُوا	اجْعَلْنَا	لِتَلْفِتَنَا	عَبَا	وَجَدْنَا	عَلَيْهِ	
ساحر/ جادوگر	انہوں نے کہا	کیا آیا ہے تو ہمارے پاس	تا کہ تو پھیر دے ہمیں	اس سے جو	پایا ہم نے	اس پر	
أَبَاءَنَا	وَتَكُونُ	لَكُمْ	الْكِبْرِيَاءُ	فِي الْأَرْضِ 77	وَمَا	نَحْنُ	
اپنے آباؤ اجداد کو	اور ہو جائے	تم دونوں کے لیے	بڑائی	زمین میں	اور نہیں	ہم	

لَكُمْ	بِؤْمِنِينَ 78	وَقَالَ	فِرْعَوْنُ	اَتْتَوْنِي	بِكُلِّ	سِحْرِ
تم دونوں کو	ماننے والے	اور کہا	فرعون نے	لاؤ میرے پاس	ہر	جادوگر کو
عَلَيْهِ 79	فَلَمَّا جَاءَ	السَّحْرَةَ	قَالَ لَهُمْ	مُوسَى	الْقَوْلَا	مَا
جو ماہر ہو	توجہ	آگئے	جادوگر	کہا	ان سے	موسى نے
اَنْتُمْ	مُلقُونَ 80	فَلَمَّا	الْقَوْلَا	قَالَ	مُوسَى	مَا
تم	ڈالنے والے ہو	توجہ	انہوں نے ڈالا	کہا	موسى نے	وہ جو
بِهِ 81	السَّحْرِ ط	إِنَّ	اللَّهَ	سَيَبْطِلُهُ ط	إِنَّ	اللَّهَ
جس کو	جادو ہے	بے شک	اللہ	غفقریب وہ باطل کر دے گا اسے	بے شک	اللہ
عَمَلِ	الْمُفْسِدِينَ 81	وَيُحِقُّ	اللَّهُ	الْحَقَّ	بِكَلِمَتِهِ	وَلَوْ
کام	مفسدوں کا	اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے	اللہ	حق کو	اپنے کلمات سے	اور اگرچہ
كِرَهُ	الْمُجْرِمُونَ 82	فَمَا	أَمَّنَ	لِمُوسَى	إِلَّا	ذُرِّيَّةً 83
ناپسند کریں	مجرم	تو نہ	بات مانی	موسى کی	مگر	چند نوجوانوں نے
مِّنْ قَوْمِهِ	عَلَى خَوْفٍ	مِّنْ فِرْعَوْنَ	وَمَلَائِهِمْ	أَنْ	يَفْتِنَهُمْ ط	
اس کی قوم میں سے	خوف کی بنا پر	فرعون سے	اور اس کے سرداروں سے	کہ	وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں	
وَإِنَّ	فِرْعَوْنَ	لَعَالٍ	فِي الْأَرْضِ ج	وَإِنَّهُ	لَيَسَّرُ الْمُسْرِفِينَ 83	
اور بے شک	فرعون	البتہ سرکش تھا	زمین میں	اور بے شک وہ	یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا	
وَقَالَ	مُوسَى	يُقَوْمٍ	إِنْ	كُنْتُمْ	أَمْنْتُمْ	بِاللَّهِ
اور کہا	موسى نے	اے میری قوم	اگر	ہو تم	ایمان لائے تم	اللہ پر
تَوَكَّلُوا 84	إِنْ	كُنْتُمْ	مُسْلِمِينَ 84	فَقَالُوا	عَلَى اللَّهِ	تَوَكَّلْنَا ج
تم توکل کرو	اگر	ہو تم	فرماں بردار	تو انہوں نے کہا	اللہ ہی پر	توکل کیا ہم نے

رَبَّنَا	لَا تَجْعَلْنَا	فِتْنَةً	لِلْقَوْمِ	الظَّالِمِينَ ﴿85﴾	وَنَجِّنَا
اے ہمارے رب	نتو بنانا ہمیں	فتنہ	ان لوگوں کے لیے	جو ظالم ہیں	اور نجات دے ہمیں
بِرَحْمَتِكَ	مِنَ الْقَوْمِ	الْكَافِرِينَ ﴿86﴾	وَ أَوْحِينَا	إِلَىٰ مُوسَىٰ	وَ أَخِيهِ
ساتھ اپنی رحمت کے	ان لوگوں سے	جو کافر ہیں	اور وحی کی ہم نے	طرف موسیٰ	اور اس کے بھائی کے
أَنْ	تَبَوَّأُوا	لِقَوْمِكُمَا	بِبَصَرٍ	بِوْتًا	وَ اجْعَلُوا
کہ	تم دونوں متعین کرو	اپنی قوم کے لیے	مصر میں	کچھ گھر	اور بنا لو
قِبْلَةً	وَ اقِيمُوا	الصَّلَاةَ ط	وَ بَشِّرِ	الْمُؤْمِنِينَ ﴿87﴾	وَ قَالَ
قبلہ/مرکز	اور قائم کرو	نماز	اور خوش خبری دو	مومنوں کو	اور کہا
رَبَّنَا	إِنَّكَ	آتَيْتَ	فِرْعَوْنَ	وَ مَلَأَهُ	زِينَةً
اے ہمارے رب	بے شک تو	دی تونے	فرعون کو	اور اس کے سرداروں کو	زینت
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	رَبَّنَا	لِيُضِلُّوا	عَنْ سَبِيلِكَ ج	رَبَّنَا	
دنیا کی زندگی میں	اے ہمارے رب	تاکہ وہ بھٹکائیں	تیرے راستے سے	اے ہمارے رب	
اطْمَئِنَّ	عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ	وَ اشْدُدْ	عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	فَلَا	يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ
مٹادے	ان کے مالوں کو	اور سختی ڈال دے	ان کے دلوں پر	تو نہ	وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ
يَرَوْا	الْعَذَابَ	الْأَلِيمَ ﴿88﴾	قَالَ	قَدْ	أُجِيبَتْ
وہ دیکھ لیں	عذاب	دردناک	فرمایا	تحقیق	قبول کر لی گئی
فَاسْتَقِيمَا	وَ لَا	تَتَّبِعَنَّ	سَبِيلَ	الَّذِينَ	لَا يَعْلَمُونَ ﴿89﴾
پس تم دونوں ثابت قدم رہو	اور نہ	تم دونوں ہرگز پیروی کرنا	راستے کی	ان کے جو	نہیں وہ علم رکھتے
وَ جُوزْنَا	بِبَنِي إِسْرَائِيلَ	الْبَحْرَ	فَاتَّبَعَهُمْ	فِرْعَوْنَ	وَ جُنُودَهُ
اور پار کر دیا ہم نے	بنی اسرائیل کو	سمندر	پھر پیچھا کیا ان کا	فرعون	اور اس کے لشکروں نے

بَغِيًّا	وَعَدُوا ^ط	حَتَّى	إِذَا	أَدْرَكَهُ	الْغَرَقُ ^ل	قَالَ	أَمَنْتُ
سرکشی	اور زیادتی سے	یہاں تک کہ	جب	پالیا اسے	غرق ہونے نے	وہ بولا	میں ایمان لے آیا
أَنَّهُ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	الَّذِي	أَمَنْتُ	بِهِ	بَنُو إِسْرَائِيلَ
کہ بے شک وہ	نہیں	کوئی الہ (برحق)	مگر	وہی جو	ایمان لائے	جس پر	بنی اسرائیل
وَأَنَا	مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^{٩٠}	أَلَّن	وَقَدْ	عَصَيْتَ	قَبْلُ	وَكُنْتُ	
اور میں	مسلمانوں میں سے ہوں	کیا اب	حالانکہ تحقیق	نافرمانی کی تو نے	اس سے پہلے	اور تھا تو	
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ^{٩١}	فَالْيَوْمَ	نُنَجِّيكَ	بِبَدَنِكَ	لِتَكُونَ	لِسَن		
فساد کرنے والوں میں سے	تو آج	ہم بچالیں گے تجھے	ساتھ تیرے بدن کے	تا کہ تو ہو جائے	ان کے لیے جو		
خَلْفَكَ	أَيَّةً ^ط	وَأَنَّ	كثِيرًا	مِنَ النَّاسِ	عَنْ آيَاتِنَا	لِغَفْلُونَ ^{٩٢}	
تیرے بعد ہوں	ایک نشانی	اور بے شک	بہت سے	لوگوں میں سے	ہماری آیات سے	البتہ غافل ہیں	
وَلَقَدْ	بَوَّأْنَا	بَنِي إِسْرَائِيلَ	مُبَوَّأً	صِدْقٍ	وَرَزَقْنَهُمْ		
اور البتہ تحقیق	ٹھکانہ دیا ہم نے	بنی اسرائیل کو	ٹھکانہ	سچا/ عمدہ	اور رزق دیا ہم نے انہیں		
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ^ج	فَمَا	اِخْتَلَفُوا	حَتَّى	جَاءَهُمُ	الْعِلْمُ ^ط	إِنَّ	
پاکیزہ چیزوں سے	تو نہیں	انہوں نے اختلاف کیا	یہاں تک کہ	آگیا ان کے پاس	علم	بے شک	
رَبِّكَ	يَقْضَى	بَيْنَهُمْ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	فِيمَا	كَانُوا	فِيهِ
رب آپ کا	وہ فیصلہ کرے گا	درمیان ان کے	دن	قیامت کے	اس میں جو	تھے وہ	جس میں
يَخْتَلِفُونَ ^{٩٣}	فَإِنْ	كُنْتَ	فِي شَكٍّ	مِمَّا	أَنْزَلْنَا	إِلَيْكَ	
وہ اختلاف کرتے	پھر اگر	ہیں آپ	کسی شک میں	اس کے بارے میں جو	نازل کیا ہم نے	طرف آپ کے	
فَسَعَلِ	الَّذِينَ	يَقْرءُونَ	الْكِتَابَ	مِنْ قَبْلِكَ ^ج	لَقَدْ	جَاءَكَ	
تو پوچھ لیجیے	ان لوگوں سے جو	پڑھتے ہیں	کتاب	آپ سے پہلے	البتہ تحقیق	آگیا آپ کے پاس	

الْحَقُّ	مِنْ رَبِّكَ	فَلَا تَكُونَنَّ	مِنَ السُّرْتِينَ 94	وَلَا تَكُونَنَّ
حق	آپ کے رب کی طرف سے	پس ہرگز نہ آپ ہوں	شک کرنے والوں میں سے	اور ہرگز نہ آپ ہوں
مِنَ الَّذِينَ	كَذَّبُوا	بِآيَاتِ اللَّهِ	فَتَكُونَنَّ	مِنَ الْخٰسِرِينَ 95
ان میں سے جنہوں نے	جھٹلایا	اللہ کی آیات کو	ورنہ آپ ہو جائیں گے	خسارہ پانے والوں میں سے
الَّذِينَ	حَقَّتْ	عَلَيْهِمْ	كَلِمَاتُ	رَبِّكَ
وہ لوگ جو	ثابت ہو گئی	ان پر	بات	آپ کے رب کی
جَاءَتْهُمْ	كُلُّ	آيَةٍ	حَتَّىٰ	يَرَوْا
آجائے ان کے پاس	ہر	نشانی	یہاں تک کہ	وہ دیکھ لیں
كَانَتْ	قَرْيَةً	أَمْنًا	فَنَفَعَهَا	إِيمَانَهَا
ہوئی	کوئی بستی	جو ایمان لائی	تو نفع دیا سے	اس کے ایمان نے
لَهَا	أَمْنًا	كَشَفْنَا	عَنْهُمْ	عَذَابَ
جب	وہ ایمان لائے	ہٹا دیا ہم نے	ان سے	عذاب
وَمَتَّعْنَاهُمْ	إِلَىٰ حِينٍ 98	وَلَوْ	شَاءَ	رَبُّكَ
اور فائدہ دیا ہم نے انہیں	ایک مدت تک	اور اگر	چاہتا	رب آپ کا
فِي الْأَرْضِ	كُلَّهُمْ	جَمِيعًا ٭	أَفَأَنْتَ	تُكْرَهُ
زمین میں ہیں	سب کے سب	اکٹھے	کیا بھلا آپ	مجبور کریں گے
مُؤْمِنِينَ 99	وَمَا	كَانَ	لِنَفْسٍ	أَنْ
ایمان لانے والے	اور نہیں	ہے	کسی نفس کے لیے	کہ
وَيَجْعَلُ	الرِّجْسَ	عَلَى الَّذِينَ	لَا يَعْقِلُونَ 100	قُلِ
اور وہ ڈال دیتا ہے	گندگی کو	ان پر جو	نہیں وہ عقل رکھتے	کہہ دیجیے

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط	وَمَا تُغْنِي	الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ	عَنْ قَوْمٍ
آسمانوں میں	اور نہیں	فائدہ دیتیں	آیات اور ڈراوے
لَا يُؤْمِنُونَ 101	فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا	مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ	خَلَوْا
نہیں وہ ایمان لاتے	تو نہیں	وہ انتظار کر رہے	مگر
مَنْ قَبْلِهِمْ ط	قُلْ فَانْتَظِرُوا	إِنِّي مَعَكُمْ	مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 102
ان سے پہلے	کہہ دیجیے	پس انتظار کرو	بے شک میں ساتھ تمہارے
ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا	وَالَّذِينَ آمَنُوا	كَذَلِكَ ج	حَقًّا عَلَيْنَا
پھر ہم نجات دیتے ہیں	اپنے رسولوں کو	اور ان کو جو	ایمان لائے
نُنَجِّجُ الْمُؤْمِنِينَ ع	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ	إِنْ كُنْتُمْ	فِي شَكٍّ
کہ ہم نجات دیں	مومنوں کو	کہہ دیجیے	اے لوگو اگر
مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ	الَّذِينَ تَعْبُدُونَ	مِنْ دُونِ اللَّهِ	وَلَكِنْ
میرے دین سے	پس نہیں	میں عبادت کرتا	جن کی تم عبادت کرتے ہو
أَعْبُدُ اللَّهَ	الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ط	وَأُمِرْتُ	أَنْ أَكُونَ
میں عبادت کرتا ہوں	اللہ کی	وہ جو	فوت کرتا ہے تمہیں
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 104	وَأَنْ أَقِمَّ	وَجْهَكَ لِلدِّينِ	حَنِيفًا ج
ایمان لانے والوں میں سے	اور یہ کہ	قائم رکھے	چہرہ اپنا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ 105	وَلَا تَدْعُ	مِنْ دُونِ اللَّهِ	مَا لَا يَنْفَعُكَ
مشرکوں میں سے	اور نہ	آپ پکاریے	سوائے اللہ کے
وَلَا يَضُرُّكَ ج	فَإِنْ فَعَلَتْ	فَأِنَّكَ	إِذَا
اور نہ وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو	پھر اگر	کیا آپ نے (ایسا)	تو بے شک آپ
			اس وقت
			ظالموں میں سے ہوں گے

وَأَنْ يَسْأَلَكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ	اور اگر	پہنچائے آپ کو	اللہ	کوئی تکلیف	تو نہیں	کوئی ہٹانے والا	اسے	مگر	وہی	اور اگر
---	---------	---------------	------	------------	---------	-----------------	-----	-----	-----	---------

يُرِدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ	وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ	کسی بھلائی کا	تو نہیں	کوئی پھیرنے والا	اس کے فضل کو	وہ پہنچاتا ہے	اسے	جسے
--	-------------------------	---------------	---------	------------------	--------------	---------------	-----	-----

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 107 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ	وہ چاہتا ہے	اپنے بندوں میں سے	اور وہ	بہت بخشنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	کہہ دیجیے	اے لوگو
--	-------------	-------------------	--------	-------------------	------------------------	-----------	---------

قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَانصُرُوا	تحقیق	آچکا تمہارے پاس	حق	تمہارے رب کی طرف سے	تو جس نے	ہدایت پائی	تو بے شک
---	-------	-----------------	----	---------------------	----------	------------	----------

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا	وہ ہدایت پائے گا	اپنے نفس کے لیے	اور جو	گمراہ ہوا	تو بے شک	وہ گمراہ ہوگا	اپنے (نفس) پر
--	------------------	-----------------	--------	-----------	----------	---------------	---------------

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ 108 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ	اور نہیں	میں	تم پر	کوئی ذمہ دار	اور پیروی کیجیے	اس کی جو	وحی کی جاتی ہے	طرف آپ کے
--	----------	-----	-------	--------------	-----------------	----------	----------------	-----------

وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 109	اور صبر کیجیے	یہاں تک کہ	فیصلہ کر دے	اللہ	اور وہ	بہتر ہے	سب فیصلہ کرنے والوں سے
---	---------------	------------	-------------	------	--------	---------	------------------------

آيَاتُهَا: 123	11 سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ 52	رُكُوعَاتُهَا: 10
----------------	--------------------------------	-------------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّكْعَةُ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهَا ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنَ الدُّن	الر	ایک کتاب ہے	پختگی کی گئیں ہیں	آیات اس کی	پھر	کھول کر بیان کی گئیں	طرف سے
--	-----	-------------	-------------------	------------	-----	----------------------	--------

حَكِيمٍ خَيْرٍ ۚ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي لَكُمْ	بہت حکمت والے	خوب باخبر کے	کہ نہ	تم عبادت کرو	مگر	اللہ کی	بے شک میں	تمہارے لیے
---	---------------	--------------	-------	--------------	-----	---------	-----------	------------

مِّنْهُ	نَذِيرٌ	وَبَشِيرٌ ②	وَأَن	اسْتَغْفِرُوا	رَبَّكُمْ	ثُمَّ
اس کی طرف سے	ڈرانے والا	اور خوش خبری دینے والا ہوں	اور یہ کہ	تم بخشش مانگو	اپنے رب سے	پھر
تُوبُوا	إِلَيْهِ	يَسْتَعْمُرُ	مَتَاعًا	حَسَنًا	إِلَىٰ أَجَلٍ	مُّسَيِّئًا
تم توبہ کرو	طرف اس کے	وہ فائدہ دے گا تمہیں	فائدہ	اچھا	ایک مدت تک	مقرر
وَيُؤْتِ	كُلَّ	ذِي فَضْلٍ	فَضْلَهُ ٤	وَأَن	تَوَلَّوْا	فَإِنِّي
اور وہ دے گا	ہر	صاحبِ فضل کو	فضل اس کا	اور اگر	تم منہ پھیرو گے	تو بے شک میں
عَلَيْكُمْ	عَذَابٌ	يَوْمٍ	كَبِيرٍ ③	إِلَىٰ	اللَّهِ	مَرْجِعُكُمْ ٥
تم پر	عذاب سے	بڑے دن کے	طرف اللہ ہی کے	لوٹنا ہے تمہارا	اور وہ	اوپر
كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيرٌ ④	أَلَّا	إِنَّهُمْ	يَكْفُرُونَ	صَدُورَهُمْ
ہر	چیز کے	خوب قدرت رکھنے والا ہے	خبردار	بے شک وہ	وہ دوہرے کرتے ہیں	سینے اپنے
لَيْسْتَخْفُوا	مِنْهُ ٤	أَلَّا	حِينَ	يَسْتَغْشُونَ	ثِيَابَهُمْ ٥	يَعْلَمُ
تا کہ وہ چھپ سکیں	اس سے	خبردار	جس وقت	وہ ڈھانپتے ہیں	کپڑے اپنے	وہ جانتا ہے
مَا يُسْرُونَ	وَمَا	يُعْلِنُونَ ٥	إِنَّهُ	عَلِيمٌ	بِذَاتِ	الْصُّدُورِ ⑤
جو	وہ چھپاتے ہیں	اور جو	وہ ظاہر کرتے ہیں	بے شک وہ	خوب جاننے والا ہے	سینوں والے (بھید)